

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ

27 جولائی 2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یو جی سی کے اشتراک سے 'صنفی تعصب ، دقیانوسی تصورات اور صنفی مساوات' پر ویبنار کا اہتمام

شعبہ پولیٹیکل سائنس اور انگریزی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کے اشتراک سے آج صنفی تعصب ، دقیانوسی تصورات اور صنفی مساوات' کے عنوان سے ایک ویبنار کا اہتمام کیا۔

اس ویبنار کا افتتاح پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا ، پروگرام کے اختتام تک وہ بذات خود اس میں شریک رہیں ۔

اجلاس کا آغاز معزز مقررین ، پروفیسر رنجنا اگروال ، ڈائریکٹر سی ایس آئی آر اور این آئی ایس ٹی اے ڈی ایس ، اور ڈاکٹر ابھیجیت داس ، ڈائریکٹر ، سنٹر فار ہیلتھ اینڈ سوشل جسٹس اینڈ کلینیکل ایسوسی ایٹ پروفیسر ، ڈپارٹمنٹ آف گلوبل ہیلتھ ، یونیورسٹی آف واشنگٹن ، امریکہ کے خطاب سے ہوا۔

دوسرے سیشن کی صدارت ، پروفیسر بلبل دھر جیمز ، شعبہ پولیٹیکل سائنس ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ صنف خواتین اور مردوں کے مختلف گروہوں کے تنوع کو تسلیم تفہیم تک ہی محدود نہیں ہے ۔ انہوں نے 'کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف صنف کے بارے میں 'بانٹری کہا صنفی مساوات صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے ، یہ سب کے لئے " انسانی حقوق " کے مجموعی فریم ورک کے اندر ہے اور اس میں عورتوں ، مردوں ، لڑکیوں اور لڑکوں کے مساوی حقوق ، ذمہ داریوں اور موقعوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ صنفی مساوات کے بغیر حقوق کا حصول عبث ہے ۔ پروفیسر جیمز نے کہا کہ صنفی تجزیہ کو شریک اور جامع بنانے کے لئے ایک عام سیاسی ، معاشی تجزیہ میں ضم کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، صنفی مساوات پر امن ، پائیدار ، عوام کی بنیاد پر ترقی کے لئے ایک شرط ہے۔

صنف مساوات اور استحکام برائے امن و ترقی کے بارے پر پروفیسر رنجنا نے روشنی ڈالی ڈاکٹر ابھیجیت داس نے ہندوستان میں برادری کی سطح پر مردوں کے عوامی شعبے میں خواتین کی شمولیت کی تائید اور حمایت کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

الہ آباد یونیورسٹی کے ایک مشہور شاعر ، پروفیسر اسمتہ اگروال ، سابقہ ڈائریکٹر ، سینٹر فار وومنس اسٹڈیز ، پروفیسر بھراتھی ہری شنکر ، ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف وومنس اسٹڈیز ، یونیورسٹی آف مدراس سمیت پروگرام میں شریک ریسورس پرسنز نے شعور ی اور لاشعوری طور پر صنفی کرداروں کے لحاظ سے ہم آہنگی ادبی کاموں کے ذریعے ذات ، طبقے ، مذہب اور ثقافت کے باہم مساعی کو اجاگر کیا۔

گوگل میٹ کے ذریعے منعقد ہونے والے اس ویبنار میں تقریباً 600 ریجسٹریشن ہوئے تھے ۔

احمد عظیم

پی آر او -میڈیا کوآرڈینیٹر